

KITAB UL NAHW

كِتَاب النُّحُو

BY

Allamah Muhammed Islam Qadri Jilani



<http://Islamichub.org.uk>



JAMIA FATMIA QADRIA JILANIA



Jamia Fatmia qadria jilania w



Mohammed Islam Qadri Jilani

Tel : 07455211575

Waltham Forest Islamic Association London

لَفْظٌ
The spoken word

مَوْضُوعٌ
Meaningful word

مُهْمَلٌ
Meaningless word

مُفْرَدٌ
Singular

مُرَكَّبٌ
Compound

إِسْمٌ
Noun

فِعْلٌ
Verb

حَرْفٌ
Particle

مُرَكَّبٌ مُفِيدَةٌ
The beneficial sentence

مُرَكَّبٌ غَيْرٌ مُفِيدَةٌ
The non-beneficial sentence

جَامِدٌ
Neither infinitive or derivative

مَصْدَرٌ
Infinitive

مُشْتَقٌّ
Derivative

مَاضِيٌ
Past tense

مُضَارِعٌ
Present and future tense

أَمْرٌ
Positive command

نَهْيٌ
Negative command

عَامِلٌ
Regent(governing word)

غَيْرُ الْعَامِلِ
Non governing word

جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ
Constructed sentence

جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ
Informative sentence

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ
Verbal sentence

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ
Nominal sentence

مُرَكَّبٌ اِضَافِيٌّ
The annexed compound

مُرَكَّبٌ بِنَائِيٌّ
The indeclinable compound

مُرَكَّبٌ مَنَعُ الضَّرْفِ
The partially indeclinable compound

مُرَكَّبٌ صَوْتِيٌّ
Sound Compound

مُرَكَّبٌ تَوْصِيفِيٌّ
Descriptive Compound

- عُقُودٌ
Contract
- قَسَمٌ
Oath
- نِدَاءٌ
Proclamation
- تَمَنِّيٌّ
Wish
- نَهْيٌ
Prohibition
- تَعْجَبٌ
Surprise
- عَرَضٌ
Request
- تَرْجِيٌّ
Hope
- اِسْتِفْهَامٌ
Interrogation
- أَمْرٌ
Imperative order

Technical Terms of Nahw

The spoken word	لَفْظٌ	1
Meaningful word	مَوْضُوعٌ	2
Meaningless word	مُهْمَلٌ	3
Singular	مُفْرَدٌ	4
Compound	مُرَكَّبٌ	5
The word	كَلِمَةٌ	6
Noun	إِسْمٌ	7
Verb	فِعْلٌ	8
Particle	حَرْفٌ	9
The beneficial sentence	مُرَكَّبٌ مُفِيدٌ	10
The non-beneficial sentence	مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيدٍ	11
proposition	جُمْلَةٌ	12
speech	كَلَامٌ	13
informative sentence	جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ	14
constructed sentence	جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ	15
nominal sentence	جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ	16
verbal sentence	جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ	17
The predicative	مُسْنَدٌ	18
The subject	مُسْنَدٌ اِلَيْهِ	19
The beginning	مُبْتَدَأٌ	20
The information	خَبْرٌ	21
active subject.	فَاعِلٌ	22
Judgement	حُكْمٌ	23
Imperative order	اَمْرٌ	24

prohibition	نَهْيٌ	25
interrogation	إِسْتِفْهَامٌ	26
wish	التَّمَنَّى	27
Hope	التَّرَجُّى	28
contract	عَقُودٌ	29
proclamation	نِدَاءٌ	30
request	عَرَضٌ	31
oath	قَسَمٌ	32
surprise	تَعْجَبٌ	33
The annexed compound	مُرَكَّبٌ إِضَافِيٌّ	34
The indeclinable compound	مُرَكَّبٌ بِنَائِيٌّ	35
The partially indeclinable compound	مُرَكَّبٌ مَنَعَ الصَّرْفِ	36
possessed	مُضَافٌ	37
possessor	مُضَافٌ إِلَيْهِ	38
nominative	رَفْعِيٌّ	39
accusative.	نَصْبِيٌّ	40
genitive	جَرِّيٌّ	41
unspoken	تَقْدِيرًا	42
a described	مَوْصُوفٌ	43
a description	صِفَةٌ	44
bare	جَامِدٌ	45
infinitive	مَصْدَرٌ	46
derivative	مُشْتَقٌّ	47
subject/doer	إِسْمٌ فَاعِلٌ	48
passive participle	إِسْمٌ مَفْعُولٌ	49
the asyndetic relative clause	إِسْمٌ صِفَتٌ مُشَبَّهَةٌ	50

comparative/superlative noun	إِسْمُ تَفْضِيلٍ	51
instrumental noun	إِسْمُ آلَةٍ	52
adverb denoting time/place	إِسْمُ ظَرْفٍ	53
active	مَعْرُوفٍ	54
passive	مَجْهُولٍ	55
intransitive	لَا زَمَ	56
transitive	مُتَعَدِّي	57
deficient verb	أَفْعَالُ تَأْوِيلٍ	58
verb of proximity	أَفْعَالُ الْمَقَارَبَةِ	59
verbs of the heart	أَفْعَالُ الْقُلُوبِ	60
	أَفْعَالُ تَحْوِيلٍ	61
verbs of amazement	أَفْعَالُ التَّعَجُّبِ	62
verbs of praise and blame	أَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ	63
singular	وَاحِدٍ	64
duel	تَوْفِيهِ	65
plural	جَمْعٍ	66
broken	مُكْسَّرٍ	67
sound	سَالِمٍ	68
sound masculine	مُزَكَّرٌ سَالِمٌ	69
sound feminine	مُؤَنَّثٌ سَالِمٌ	70
indefinite	نَكْرَهٌ	71
definite	مَعْرَفَةٌ	72
masculine	مُزَكَّرٌ	73
feminine	مُؤَنَّثٌ	74

نحو کے واضع حضرت علی (کرم اللہ وجہہ الکریم)

آپ نے اپنے شاگرد حضرت ابو اسود دہلی (متوفی ۶۹ھ) کو قواعد نحو ایک صحیفہ پر لکھ کر دیے

Context

The founder of Nahw is hazrat Ali (may Allah honour his generous face)

He wrote the rules of Nahw for his blessed student Abu al Aswan Ad Doli how died in 69 Hijra.

تعریف

النَّحْوُ عِلْمٌ بِأُصُولٍ يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ أَوْ آخِرِ الْكَلِمِ الثَّلَاثِ مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابِ
وَالْبِنَاءِ وَكَيْفِيَّةِ تَرْكِيْبِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ

نحو ایسے اصول کا علم ہے جس کے ذریعے کلمات ثلاثہ کے آخری احوال کو اعراب و بناء کی حیثیت سے پہچانا جائے اور ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا علم ہو جائے

Definition

Nahw is the knowledge of the principles by which the state of the endings of words are known in three parts of speech with regards to declension. , construction and the manner of construction one word with another.

مَوْضُوعٌ

الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ

نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے

Subject matter

Its subject matter is (كَلِمَةٌ) word and (كَلَامٌ) sentence.

الْغَرَضُ

صِيَانَةُ الذِّهْنِ عَنِ الْخَطَا الْفُظِّيِّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ

عربی کلام میں لفظی خطا سے بچنا

- 1 یعنی حاصل عربوں کے طریقے کے مطابق کلمات کو جوڑنا اور کلمات کے آخر میں تبدیلی لانا یا نہ لانا
- 2 اس کے ذریعہ سے قرآن اور حدیث کے صحیح معنی کو سمجھنا
- 3 اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو

Objective

The objective is to learn how to read, write and speak Arabic correctly, and to avoid making mistakes.

Three types of objectives

1) immediate objective

Nahw teaches us how to put them together to form a correct sentences.

2) Mid-term objective-is to use our Arabic skills to understand the Qur'an, Hadith and fiqh and other sciences, so that we can act upon them

3) The ultimate objective-through the above is to gain the pleasure of ALLAH the most high and his rasool Hazrat Mohammed Mustafa **PBUH**.

مُفْرَدٌ

ایک لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے اسے کلمہ بھی کہتے ہیں

Singular (word)

A singular word that conveys one meaning also called (کلمہ).

جامعہ فاطمیہ قادریہ جیلانیہ

قُرْآنٌ

مُرَّكَبٌ

وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے حاصل ہو

Compound (word or a sentence)

A group of words made up of two or more words.

رَسُولُ اللَّهِ
مُرَكَّبٌ كِي دُو قِسْمِيْن هِي
مُرَكَّبٌ مُفِيْدٌ اَوْر مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيْدٍ

Compound

Is of two types

1 A beneficial sentence

2 A non-beneficial sentence

مُرَكَّبٌ مُفِيْدٌ

وہ مرکب جس سے سننے والے کو کئی خبر یا طلب معلوم ہو
مُرَكَّبٌ مُفِيْدٌ کو مرکب تام، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں

The beneficial sentence

The beneficial sentence is that when the speaker has spoken the listener receives information or command .

اَسْجُدُوا (You all men apostate)

نَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ (Prophet of god is alive)

مُرَكَّبٌ مُفِيْدٌ كِي دُو قِسْمِيْن هِي

The beneficial sentence is of two types.

1. Informative sentence

1- جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ

2 constructed sentence

2- جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ

جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں جیسے

ذَيْدٌ قَائِمٌ (ذید کھرا ہے) Zaid is standing

Informative sentence.

Is that sentence that has the possibility of being true or false.

جُمْلَةُ انْشَائِيَّةٌ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچایا جھوٹا نہ کہہ سکیں

Constructed sentence.

Is a sentence which does not have the possibility of being true or false

مَنْ رَبُّكَ (تمہارا رب کون ہے) who is your lord کی جُمْلَةُ خَبَرِيَّةٌ کی بھی دو قسمیں ہیں

۱ جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٌ

۲ جُمْلَةُ فِعْلِيَّةٌ

Informative sentence is also of two types.

A nominal sentence

A verbal sentence

جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٌ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو جیسے ذَيْدٌ عَالِمٌ۔ zaid is a alim (ذید عالم ہے)۔

1 اس کا پہلا جز اسم ہے جس کی طرف عَالِمٌ کی نسبت کی گی ہے

ذَيْدٌ کو مسند الیہ / مبتدا کہتے ہیں

مُسْنَدٌ اِلَيْهِ اس لیے کہ عالم کی نسبت اس کی طرف کی گی ہے

2 مَبْتَدَاً اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے ابتدا کی جانی چاہیے

(مبتدا آمو من مَعْرِفَةٌ ہوتا ہے اور جبر مکرمۃ مَبْتَدَاً / خبر دونوں مَرْفُوع ہوتے ہیں)

3 جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٌ کا دوسرا جز اسم یا فعل دونوں ہو سکتا ہے

4 جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٌ کا دوسرا جز جبر کہلاتا اور وہ مُسْنَدٌ ہوتا ہے

Nominal sentence

1. it is that sentence which begins with a noun
2. the second part of the sentence can be a noun/verb
3. First part of the sentence is called Subject/مُبْتَدَأُ

Or مُسْنَدٌ (subject) (the word about which the information is being given)

the (مُسْنَدٌ) predicate or (خَبَرٌ) 4. The second part of the sentence is called word or sentence giving the information .

مَعْرِفَةٌ () is generally a definite noun مُبْتَدَأُ Subject

نَكْرَةٌ Is generally indefinite noun خَبَرٌ and the

مَرْفُوعٌ are nominative state خَبَرٌ and predicate مُبْتَدَأُ Subject

الْبَيْتُ نَظِيفٌ

مبتدا + خبر = جملہ اسمیہ خبریہ (گھر صاف ہے)

The house is clean

إِنْشَاءٌ

وہ چیز جو پہلے موجود نہ ہو اس کو وجود میں لانا

Construction

A thing that is not in form to bring it in form.

جُمْلَةٌ إِنْشَائِيَّةٌ

وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچایا جھوٹانہ کہ سکیں

Constructed sentence

Is a sentence that does not have the possibility of being true or false.

مَنْ رَبُّكَ

who is your lord (تمہارا رب کون ہے)

جملہ انشائیہ کی دس قسمیں ہیں

Constructed sentence is of ten types

1- positive command الْأَمْرُ

2- negative command النَّهْيُ

3- interrogative الْأَسْتِفْهَامُ

4- desire التَّيَبُّنُ

5- hope الْأَتْرَجِيُّ

6- transaction الْعُقُودُ

7- exclamation الْبِدَاءُ

8- request الْعَرَضُ

9- oath الْقَسْمُ

10- amazement. اتَّعَجَبُ

الْأَمْرُ

وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے فعل طلب کیا جائے

Positive command

A verb by which a action is requested from the second person

e.g. اُخْرُجْ. You go out تو نکل

النَّهْيُ

وہ فعل جس کے ذریعے ترکہ فعل کا مطالبہ کیا جائے

Negative command

A verb by which a action is forbidden

do not worry لَا تَخَفْ تَوْنَهُ دُر

الْإِسْتِفْهَامُ

لغت میں طلب افہام کو اِلَّا سْتِفْهَامُ کہتے ہیں
اس جگہ وہ جملہ انشائیہ مراد ہے جو طلب خبر پر دلالت کرے

Interrogative

A constructed sentence by which information or request is requested

who is your prophet مَنْ نَبِيِّكَ تیرا نبی کون ہے

الْكَسْبِيُّ

لغت میں آرزو کو اَلْكَسْبِيُّ کہتے ہیں
وہ جملہ انشائیہ یہ جو کسی شے کی آرزو پر دلالت کرے

Desire

A constructed sentence by which one desire for something unattainable

يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (کافر کئی لے گا) اے کاش میں مٹی ہو جاتا

(infidels will say) only if I could be dust (earth)

is used for something unattainable. لَيْتَ

الْكَرْبِيُّ

کسی ایسی چیز کے حصول کی توقع کرنا جس کے حصول کا وثوق نہ ہو
اس جگہ وہ جملہ انشائیہ مراد ہے جو کسی شے کی توقع پر دلالت کرے

Hope

A constructed sentence which indicates in the hope of something

لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (شاید کہ میں اسباب تک پہنچ جاؤں)

Hopefully I'll get to the cause.

الْعُقُودُ

عقد کی جمع وہ جملہ انشائیہ مراد ہے جو کسی معاملے کو طے کرتے وقت بولا جائے

Transaction

A constructed sentence that is used at the time of a transaction

(ایک آدمی کہے) اَنْكَحْتُكَ ابْنَتِي میں نے لڑکی تیرے نکاح میں دی (ایجاب)

(A person would say) I give my daughter to you (in nikah)

(دوسرا آدمی کہے) - قَبِلْتُ میں نے قبول کی (قبول)

(Second person would say) I accept

الِنِّدَاءِ

اس جگہ وہ جملہ انشائیہ یہ مراد ہے جس سے کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا مقصود ہو

Exclamation

A constructed sentence by which one intends to draw someone attention towards himself.

يا الله oh Allah

يا رسول الله Oh messenger of Allah

الْعَرَضُ

وہ جملہ جس سے نرمی کے ساتھ کوئی چیز طلب کرنا

Request

A polite request

اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ (کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے)

Would you not like it if Allah was to forgive you
عرض Is a mere request no answer is required.

الْقَسَمُ

کسی عظمت والی چیز کا ذکر کر کے بات کو پختہ کرنا

Oath

To take a oath by someone most dear or honourable

لَعَبْرَكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْبَهُونَ. (اے محبوب تیری زندگی کی قسم بے شک کافر اپنے نشے میں بٹھک رہے ہیں۔)

Oh my beloved I take oath by your life the infidels are wondering in the darkness

قسم کے بعد واقع ہونے والا جملہ جواب قسم ہوتا ہے

The sentence after oath is called answer to oath

التَّعَجُّبُ

وہ کیفیت جو کسی مخفی سبب والی چیز کے جاننے سے نفس میں پیدا ہوتی ہے
مراد وہ جملہ ہے جو اس معنی کے انشاء پر دلالت کرے

مَا أَحْسَنَهُ (وہ کتنا حسین ہے) how glamorous he is

الْتَّرْكِيْبُ

هَلْ ضَرَبَ ذَيْدٌ

حرف استقھام + فعل + فاعل = جملہ انشائیہ

مُرَكَّبٌ غَيْرٌ مُفِيدٌ

وہ مرکب جس کے سننے والے کو خبر یا طلب معلوم نہ ہو

اسے مرکب ناقص اور مرکب غیر تام بھی کہتے ہیں

Non beneficial sentence

A sentence that when the speaker has spoken the.

Listener does not receive any information or command.

مَرْكَبٌ غَيْرٌ مُفِيدٌ كِي پانچ قسمیں ہیں

1- الْمَرْكَبُ الْإِضَافِيُّ

2- الْمَرْكَبُ الْبِنَائِيُّ

3- الْمَرْكَبُ مَنَعُ الصَّرْفِ

4- الْمَرْكَبُ الصَّوْتِيُّ

5- الْمَرْكَبُ التَّوَصِيْفِيُّ

مَرْكَبٌ إِضَافِي

وہ مرکب جو مضاف اور مضاف الیہ پر مشتمل ہو

اور پہلا کلمہ دوسرے کی طرف مضاف ہو

پہلے کلمہ کو مضاف اور دوسرے کلمہ کو مضاف الیہ

مُضَافٌ پَر تَنوِين اور ال نہیں آتی

مُضَافٌ إِلَيْهِ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے

جامعہ فاطمیہ قادریہ جیلانیہ

Possessive phrase or annexed compound

a phrase in which the first word is attributed to the second word. It is

First word is possessed and second word is possessor

(مُضَافٌ) Possessed never gets a nutation (تَنْوِينٌ) or definite article (ال)

(مُضَافٌ إِلَيْهِ) Possessor is always genitive state (مَجْرُورٌ)

E.g

Zain's book

كِتَابُ ذَيْدٍ
ذید کی کتاب

الْمَرْكَبُ الْبِنَائِيُّ

وہ مرکب ہے کہ دو اسموں کو ایک بنایا گیا ہو اور دوسرا جز حرف پر متضمن ہو

Numerical phrase also called partially indeclinable compound

Were 2 nouns are join to become one and the second letter contains a originally links the two and are only found in numbers (و)hidden letter 11-19

أَحَدَ عَشَرَ (11) Was أَحَدٌ وَعَشْرٌ (دوسرا اسم و اوپر مشتمل تھا)

الْمَرْكَبُ مَعَ الصَّرْفِ

وہ مرکب ہے کہ دو اسموں کو ایک بنایا گیا ہو اور دوسرا اسم حرف کو متضمن نہ ہو

پہلا اسم ہمیشہ مَفْتُوحٌ ہو گا اور دوسرا اسم عَامِلٌ کے بدلنے سے بدلتا رہے گا

Indeclinable phrase

Is a phrase where 2 nouns are joined to form a single word the first word

And Second word changes (مَفْتُوحٌ) is always in the accusative state

(عَامِلٌ) according to the regent

بَعْلَبَكْ (بِین میں ایک شہر کا نام) پہلے بعل و بک تھا

Name of a city in the Yemen

الْمَرْكَبُ التَّوَصِيْفِيُّ

وہ مرکب جس کے ساتھ جاندار چیز کو بلا یا جائے

Sound compound

We're two words are duplicated to form the sound of a animal or where two words are joined to communicate with an animal.

بَحَّحَ غَاقِ غَاقِ اُحْ اُحْ

الْمَرْكَبُ الصَّوْتِيُّ

وہ مرکب جس میں دوسرا کلمہ پہلے کلمہ کی اچھی یا بڑی صفت بیان کرے اور اس کے معنی کی وضاحت کرے

پہلے کلمہ کو مَوْصُوفٌ دوسرے کلمہ کو صِفَتٌ کہتے ہیں

موصوف صفت میں ۴ چیزوں کی مناسبت ہونی چاہئے

1 اعراب میں

2 مذکر یا مؤنث ہونے میں

3 تعداد میں

4 معرفہ اور نکرہ ہونے میں

Descriptive phrase

A phrase in which the second word describes the first.

and second word is called مَوْصُوفٌ First word is object being described the describing word. صِفَتٌ

The describing word and the object being described must

correspond in four things

1. I'raab (diacritic)(condition of end of word)
2. Gender
3. Number
- 4 being a definite article or an indefinite article

رَجُلٌ صَالِحٌ (صالح آدمی) a pious man
عَلَامَاتُ الْإِسْمِ

The signs of a noun



The signs of nouns are 11 اسم کی علامتیں 11 ہیں

The additional particle of at the beginning (ال) اس کے شروع میں ہو
(ال)beginning.

الْحَمْدُ الرَّجُلُ

2 حَرْفُ جَرٍّ اس کے شروع میں ہو before having a genitive particle.
it.

بِزَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ

It has a nunation.

3 تَنْوِينٌ (ِ ً ٍ) اس کے آخر میں ہو

زَيْدٌ خَالِدٌ

It assumes the role of the subject.

4 مُسْنَدٌ إِلَيْهِ ہو (فَاعِلٌ or مُبْتَدَأٌ)

بَكْرٌ كَاتِبٌ

It is the possessed

5 مُضَافٌ ہو

غَلَامٌ زَيْدٍ

It is the diminutive noun.

6 مُصَغَّرٌ ہو

رُجَيْلٌ قُرَيْشِيٌّ

7 مَنَسُوبٌ (کسی چیز کی طرف منسوب کیا ہو)

It is attributed.

مَدَنِيٌّ مَكِّيٌّ بَعْدَادِيٌّ

It is dual.

8 تَشْنِيئَةٌ هُوَ

رَجُلَانِ

it is plural.

9 جَمْعٌ هُوَ

رِجَالٌ

It is qualifiable.

10 مَوْصُوفٌ هُوَ

A learned man came. جَاءَ رَجُلٌ عَالِمٌ

11 تَاءٌ مُتَحَرِّكَةٌ اس سے ملی ہو (جو وقف کی صورت میں ہا ہو جاتی ہے). ة

It has the vowelised letter ta

ضَارِبَةٌ

The signs of a verb

عَلَامَاتُ الْفِعْلِ

فعل کی علامتیں آٹھ ہیں

There are eight signs of a verb.

1 قَدْ اس کے شروع میں ہو

It has the particle.

he has gone out. قَدْ خَرَجَ

2 س اس کی شروع میں ہو

It has the letter.

he shall hit. سَيَضْرِبُ

3 سَوْفَ اس کے شروع میں ہو۔

It has the particle. سَوْفَ

he shall soon hit سَوْفَ يَضْرِبُ

4 حَرْفُ جَزْمٍ

یعنی وہ حرف جس کی وجہ سے فعل مضارع کا آخر ساکن ہوتا ہے

It has the genitive particle.

he did not hit. لَمْ يَضْرِبْ

It has an attached. 5 ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ اس کے ساتھ ملی ہو

Nominative pronoun

I hit ضَرَبْتُ

6 تَاءِ سَاكِنٍ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔

It has the silent letter ta ت

she hit. ضَرَبَتْ

جامعہ فاطمیہ قادریہ جیلانیہ

7 اَمْرٌ ہو

To be imperative

you hit اِضْرِبْ

It is a prohibition.

8 نَهَىٰ هُوَ

do not hit. لَا تَضْرِبْ

عَلَامَةُ الْحَرْفِ

حرف کی علامت یہ ہے کہ اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی بھی علامت نہ ہو

Signs of particle The sign of a particle is that it has no sign of a noun or a verb(a particle has no sign of its own)

Declinable and indeclinable الْمَعْرَبُ وَالْمَبْنِيُّ

معرب اور مبنی کی تعریف

Definition of declinable and indeclinable

عربی زبان کے تمام کلمات دو قسم پر ہیں

مُعْرَبٌ اور مَبْنِيٌّ

مُعْرَبٌ وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل (عمل کرنے والا) کے بدلنے سے بدل جائے

مَبْنِيٌّ وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے

مُعْرَبٌ اور مَبْنِيٌّ کی قسمیں

Words are of two types with respect to change,

which may or may not take place at their ends.

If the end of a word remains the same in all conditions, it's called.

مَبْنِيٌّ

And that word whose end changes is called.

مُعْرَبٌ

تمام حُرُوفٌ مَبْنِيٌّ ہیں اور افعال میں تین فعل مَبْنِيٌّ ہیں

الفعلُ المَاضِي

all particles are indeclinable.

الأمرُ الحَاضِرُ المَعْرُوفُ

From the verbs only past tense , active imperative command second person, are indeclinable .

فعل ماضارع (جب اس کے ساتھ جمع مؤنث غائب یا جمع مؤنث حاضر کا "ن" ہو یا "نون" تاکید "ہو

From present and future tense only plural feminine (second and third person) or to have emphasised heavy noon and emphasised light noon attached to it are indeclinable.

اور اسماء میں اسم غیر متمکن مبنی ہے جب کہ اسم متمکن اس وقت مبنی ہے جب ترکیب میں واقع نہ ہو اور اگر ترکیب میں واقع ہو تو معرب ہے

There are some nouns that are indeclinable they are called indeclinable nouns .

Declinable noun become indeclinable when they are not a compound.

If in a compound it will become declinable.

اور فعل مضارع اس صورت میں معرب ہے جب وہ جمع مؤنث کے دونوں نون (نون جمع مؤنث غائب اور نون جمع مؤنث حاضر) اور نون تاکید سے حالی ہو

A present and future tense will become declinable when it does not have the noon of plural feminine third person, or noon of plural feminine second person or a emphasised noon is attached.

الاسمُ مُتَمَكِّنٌ declinable noun

وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو (چونکہ قابل اعراب ہے)

A noun that has no similarities with the natural indeclinable it is a declinable noun .

ذَيِّدٌ

الاسم غير متمكن indeclinable noun

وہ اسم جو بنی الاصل کے مشابہ ہو (غیر متمکن اس لیے کہلاتا ہے کہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا)

a noun that has similarities.

With the natural indeclinable is a indeclinable noun.

هَذَا هُوَ

الاسم غير متمكن کی آٹھ قسمیں ہیں

There are 8 types of indeclinable nouns

1 الضمائر pronouns

2 الأسماء الإشارية nouns of indication

3 الأسماء الموصولة relative pronoun/conjunctive noun

4 أسماء الأفعال verbal nouns.

5 أسماء الأصوات nouns of the voice

6 أسماء الظروف nouns of placement

7 أسماء الكنايات nouns of illusion

8 المركب البني indeclinable compound

مضمرات

جامعہ فاطمیہ قادریہ جیلانیہ

وہ اسماء جو متکلم محاط یا غائب مزکور کے لیے موضوع ہو

Pronouns

Are those words, which are used in the place of names and refer to the (speaker) first person ,second person or third person.

أَنَا أَنْتَ

الْأَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ

وہ اسم ہے جو آنکھوں دیکھی چیز کی طرف کسی عضو سے اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو

Noun of indication

A noun that is used to indicate to something (that is visible)with your limbs

هَذَا هَذِهِ

الْأَسْمَاءُ الْمَوْصُولَةُ

اسم موصول وہ اسم ہے جو اس وقت تک جملے کی جز تا م نہیں بنتا۔ جب تک اس کے ساتھ ایک جملہ نہ ملایا جائے وہ جملہ اس اسم کی ضمیر پھر مشتمل ہوتا ہے اور صلہ کہلاتا ہے۔
صلہ زیادہ تھور پھر جملہ خبریہ ہوتا ہے۔

Relative pronoun

Relative pronoun is a proper noun whose

meaning /purpose is understood through the sentence (that comes after it) called relative clause which relates back to it (refer back)

Mostly the **relative** clause is a **informative sentence** and has a connecting **particle**

الَّذِي الَّتِي

أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ

1 وہ اسم ہے جو فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہو جیسے

رُوِيَ (توضو ر چھوڑ)

هَيَّاتٌ (وہ دور ہوا)

2 اسم فعل وہ ہے جو معنی اور استعمال میں فعل کے قائم مقام ہو
(استعمال سے مراد یہ ہے کہ عامل تو بنے لیکن معمول نہ بن سکے) نَشْتَانٌ صَهَةٌ

Verbal nouns are nouns that have the meaning of verbs

but do not accept its signs

رَفَعٌ* that which has the meaning of past tense gives the noun after it

That which has the meaning of imperative command gives the noun

نَصَبٌ after it a

رَوَيْدٌ

أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ

وہ لفظ جو ہے جو کسی عارضے کے وقت انسان سے طبی طور پر صادر ہو

Noun is the voice

Word that are used by humans naturally at the time of distress

أُحُحٌ

أَسْمَاءُ الظُّرُوفِ

وہ اسم ہے جو کسی زمانہ یا مکان پھر دلالت کرے اس کی دو قسمیں ہیں

Nouns of placement (adverbs)

A noun which gives us an idea of the place or time when the action was done

There are two types

1 جو کسی خاص فعل کے زمانہ یا مکان پھر دلالت کرے جیسے

مَضْرِبٌ (مارنے کی جگہ یا وقت)

1 when the adverb refers to a particular time or place

2 جو مطلق زمانہ یا مکان پھر دلالت کرے (کسی فعل کی خصوصیت کا اعتبار نہ ہو) جیسے اُو زمانہ ماضی پر اُو زمانہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے (اسم غیر متمکن صرف دوسری قسم ہے)

when the adverb doesn't refer to a particular time or place but just simply any time or place. (this type is the indeclinable noun)

أَسْمَاءُ الْكِنَايَاتِ

وہ اسم جو کسی معین شے پر صراحت کے بغیر دلالت کرتا ہے

Nouns of allusion

Those which indicate an unspecified quantity

كَمْ كَذَا

الْمَرْكَبُ الْبَيْنِيُّ

وہ مرکب ہے کہ دو اسموں کو ایک بنایا گیا ہو اور دوسری جز خرف کو متضمن ہو

Indeclinable compound

A compound where two nouns are joined to form a single word (usually a number) (second noun is connected by a hidden particle to the first)

أَحَدًا عَشَرَ أَحَدًا وَعَشَرَ

pronouns are of 5 types.

ضمائر کی پانچ اقسام ہیں

1 nominative connected pronoun

۱ ضمیر مرفوع متصل

nominative detached pronoun

۲ ضمیر مرفوع منفصل

3 accusative connected pronoun

۳ ضمیر منصوب متصل

accusative detached pronoun.

۴ ضمیر منصوب منفصل

genitive attached pronoun

۵ ضمیر مجرور متصل

ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ

وہ ضمیر جو محل رفع میں ہو اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور عامل سے مقدم نہ ہو

Nominative connected pronoun

A pronoun that is in the nominative state ,

connected to its regent and cannot be used as a prefix (can not be pronounced on its own).

ضَرَبْتُ e.g فاعل، نائب فاعل

ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُنْفَصِلٌ وہ ضمیر جو محل رفع میں واقع ہو اور اپنے عامل سے جدا ہو اور اپنے عامل سے مقدم ہو سکے

Nominative detached pronoun.

A pronoun that is in the nominative state ,is not connected to its regent and can be used as a prefix (can be pronounced on its own).

هُوَ E.g فاعل، مبتدأ اور خبر (أنا مؤن)

ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مُتَّصِلٌ وہ ضمیر جو محل نصب میں ہو اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو

Accusative connected pronoun

A pronoun that is in the accusative state, is connected to its regent and cannot be used as a prefix (cannot be pronounced on its own)

ضَرَبْتُهُ E.g مفعول بہ

(حرف مشبہ بالفعل سے ملی ہو اور اس کے لئے اسم ہو

انك انت لسبيع العليم

ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مُنْفَصِلٌ وہ ضمیر جو محل نصب میں واقع ہو اور اپنے عامل سے جدا ہو اور اس پر مقدم ہو سکے

Accusative detached pronoun

cted to its regent +A pronoun that is in its accusative state, is not connected and can be prefixed (can be pronounced on its own)

E.g. اِيَّاكَ مَفْعُولٌ بِهِ (اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)

ضميرٌ هَجْرُوْرٌ مُتَّصِلٌ وَهُوَ ضَمِيْرٌ جَوْ مَحَلِّ جَرٍ مِيْرٍ وَاقِعٌ هُوَ (بِعْنَى مُضَافٍ اِلَيْهِ يَاجَاْرٌ هَجْرُوْرٌ هُوَ) اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہوا

Genitive attached pronoun

A pronoun that is in the genitive state, it is connected to its regent and **مُضَافٌ** can not be pronounced on its own and is connected to

E.g. لَهُ، غُلَامُهُ

اَلْاَسْمَاءُ اِلْاِسْاَرَةُ

وہ اسم ہے جو آنکھوں دیکھی چیز کی طرف کسی عضو سے اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے (جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو اس کو مشار الیہ کہتے ہیں)

جامعہ فاطمیہ قادریہ جیلانیہ

ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ

NOMINATIVE CONNECTED PRONOUN

صیغہ	اردو	English	ضمیر
واحد مذکر غائب	مارا اس ایک مرد نے	He hit	ضَرَبَ (هُوَ)
مثنیہ مذکر غائب	مارا ان دو مردوں نے۔	They two (male) hit	ضَرَبَا (اِ)
جمع مذکر غائب	مارا ان سب مردوں نے	They all (male) hit	ضَرَبُوا (وِ)
واحد مؤنث غائب	مارا اس ایک عورت نے	She hit	ضَرَبَتْ (هِيَ)
مثنیہ مؤنث غائب	مارا ان دو عورتوں نے	They two (females) hit	ضَرَبَتَا (اِ)
جمع مؤنث غائب	مارا ان سب عورتوں نے	They all (females) hit	ضَرَبْنَ (نِ)
واحد مزر حاضر	مارا تو ایک مرد نے	You (male) hit	ضَرَبْتَ (تِ)
مثنیہ مزر حاضر	مارا تم دو مردوں نے	You two (male) hit	ضَرَبْتُمَا (تُمَا)
جمع مزر حاضر	مارا تم سب مردوں نے	You all (males) hit	ضَرَبْتُمْ (تُمْ)
واحد مؤنث حاضر	مارا تو ایک عورت نے	You (female) hit	ضَرَبْتِ (تِ)
مثنیہ مؤنث حاضر	مارا تم دو عورتوں نے	You two (females) hit	ضَرَبْتُمَا (تُمَا)
جمع مؤنث حاضر	مارا تم سب عورتوں نے	You all (females) hit	ضَرَبْتُنَّ (تُنَّ)
واحد مزر کرو مؤنث متکلم	مارا میں ایک مرد یا ایک عورت نے	I hit	ضَرَبْتُ (تِ)
مثنیہ و جمع مزر کرو مؤنث متکلم	مارا ہم دو یا سب مردوں یا عورتوں نے	We hit	ضَرَبْنَا (نَا)

ظَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُنْفَصِلٌ

NOMINATIVE CONNECTED PRONOUN

صیغہ	اردو	انگلیش	ظمیر
واحد مذکر غائب	ایک مرد	He	هُوَ
مثنیہ مذکر غائب	وہ دو مرد۔	They two	هُمَا
جمع مذکر غائب	وہ سب مرد۔	They all	هُم
واحد مؤنث غائب	وہ ایک عورت۔	She	هِيَ
مثنیہ مؤنث غائب	وہ دو عورتیں	They two	هُمَا
جمع مؤنث غائب	وہ سب عورتیں۔	They all	هُنَّ
واحد مذکر حاضر	تو ایک مرد۔	You (male)	أَنْتَ
مثنیہ مذکر حاضر	تم دو مرد۔	You two	أَنْتُمَا
جمع مذکر حاضر	تم سب مرد۔	You all	أَنْتُمْ
واحد مؤنث حاضر	تو ایک عورت۔	You (female)	أَنْتِ
مثنیہ مؤنث حاضر	تم دو عورتیں۔	You two	أَنْتُمَا
جمع مؤنث حاضر	تم سب عورتیں۔	You all	أَنْتُنَّ
واحد متکلم (مذکر و مؤنث)	میں ایک مرد یا عورت۔	I	أَنَا
مثنیہ و جمع متکلم (مذکر و مؤنث)	ہم دو یا سب مرد یا عورتیں	We	أَنْحُنَّ

ضمیر منصوب متصل

ACCUSATIVE CONNECTED PRONOUN

صیغہ	اردو	English	ضمیر
واحد مزر غائب	مارا اس ایک مرد نے اس ایک مرد کو	He hit him	ضَرَبَهُ
متنبيہ مزر غائب.	مارا اس ایک مرد نے ان دو مردوں کو۔	He hit them two (male)	ضَرَبَهُمَا
جمع مزر غائب.	مارا اس ایک مرد نے ان سب مردوں کو۔	He hit them all (male)	ضَرَبَهُمْ
واحد مؤنث غائب.	مارا اس ایک مرد نے اس ایک عورت کو۔	He hit her	ضَرَبَهَا
متنبيہ مؤنث غائب.	مارا اس ایک مرد نے ان دو عورتوں کو۔	He hit them two (females)	ضَرَبَهُمَا
جمع مؤنث غائب.	مارا اس ایک مرد نے ان سب عورتوں کو۔	He hit Them all (females)	ضَرَبَهُنَّ
واحد مزر حاضر.	مارا اس ایک مرد نے تجھ ایک مرد کو۔	He hit you	ضَرَبَكَ
متنبيہ مزر حاضر.	مارا اس ایک مرد نے تم دو عورتوں کو۔	He hit you two (male)	ضَرَبَكُمَا
جمع مزر حاضر.	مارا اس ایک مرد نے تم سب عورتوں کو	He hit you all (male)	ضَرَبَكُم
واحد مؤنث حاضر.	مارا اس ایک مرد نے تجھ ایک عورت کو۔	He hit you (female)	ضَرَبَكِ
متنبيہ مؤنث حاضر	مارا اس ایک مرد نے ان دو عورتوں کو	He hit you two (female)	ضَرَبَكُمَا
جمع مؤنث حاضر	مارا اس ایک مرد نے تم سب عورتوں کو۔	He hit you all (female)	ضَرَبَكُنَّ
واحد مزر مؤنث متکلم.	مارا اس ایک مرد نے مجھ ایک مرد یا ایک عورت کو	He hit me	ضَرَبَنِي
	مارا اس ایک مرد نے ہم دو یا سب مردوں یا عورتوں کو	He hit us	ضَرَبَنَا

ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مُنْفَصِلٌ

ACCUSATIVE DETACHED PRONOUN

صیغہ	اردو	ENGLISH	ضمیر
واحد مذکر غائب	خاص اس ایک مرد کو	Only him	إِيَّاهُ
مثنیہ مذکر غائب	خاص ان دو مردوں کو	Only them two (male)	إِيَّاهُمَا
جمع مذکر غائب	خاص ان سب مردوں کو	Only them all (male)	إِيَّاهُمْ
واحد مؤنث غائب	خاص اس ایک عورت کو	Only her	إِيَّاهَا
مثنیہ مؤنث غائب	خاص ان دو عورتوں کو	Only them two (female)	إِيَّاهُمَا
جمع مؤنث غائب	خاص ان سب عورتوں کو	Only them all (females)	إِيَّاهُنَّ
واحد مذکر حاضر	خاص تجھ ایک مرد کو	Only you (male)	إِيَّاكَ
مثنیہ مذکر حاضر	خاص تم دو مردوں کو	Only you two (male)	إِيَّاكُمَا
جمع مذکر حاضر	خاص تم سب مردوں کو	Only you all (males)	إِيَّاكُمْ
واحد مؤنث حاضر	خاص تجھ ایک عورت کو	Only you (female)	إِيَّاكِ
مثنیہ مؤنث حاضر	خاص تم دو عورتوں کو	Only you two (female)	إِيَّاكُمَا
جمع مؤنث حاضر	خاص تم سب عورتوں کو	Only you all (females)	إِيَّاكُنَّ
واحد متکلم (مذکر و مؤنث)	خاص مجھ ایک مرد یا عورت کو	Only me	إِيَّايَ
مثنیہ و جمع متکلم (مذکر و مؤنث)	خاص ہم دو یا سب مرد یا عورتوں کو	Only us	إِيَّانَا

ضمیر مجرور متصل

GENITIVE ATTACHED PRONOUN

صیغہ	اردو	English	ضمیر
واحد مزر کر غائب	اس ایک مرد کے لیے	For him	لَهُ
ثنیہ مزر کر غائب.	ان دو مردوں کے لیے	For them two (males)	لَهُمَا
جمع مزر کر غائب.	ان سب مردوں کے لیے۔	For them all (males)	لَهُمْ
واحد مؤنث غائب.	اس ایک عورت کے لیے۔	For her	لَهَا
ثنیہ مؤنث غائب.	ان دو عورتوں کے لیے	For them two (females)	لَهُمَا
جمع مؤنث غائب.	ان سب عورتوں کے لیے۔	For them all (females)	لَهُنَّ
واحد مزر کر حاضر.	تجھ ایک مرد کے لیے	For you (males)	لَكَ
ثنیہ مزر کر حاضر.	تم دو مردوں کے لیے	For you two (males)	لَكُمَا
جمع مزر کر حاضر.	تم سب مردوں کے لیے	For you all (males)	لَكُمْ
واحد مؤنث حاضر	تجھ ایک عورت کے لیے۔	For her	لَكَ
ثنیہ مؤنث حاضر	تم دو عورتوں کے لیے۔	For them two(females)	لَكُمَا
جمع مؤنث حاضر.	تم سب عورتوں کے لیے۔	For them all (females)	لَكُنَّ
واحد مزر کر و مؤنث متکلم	مجھ ایک مرد یا عورت کے لیے۔	For me	لِي
ثنیہ و جمع مزر کر و مؤنث متکلم.	ہم دو یا سب مرد یا عورتوں کے لیے۔	For us	لَنَا

Noun of indication

Noun of indication is that noun, which is used to point at something.

Near and far. لِلْقَرِيبِ and لِلْبَعِيدِ These are of two types

	الْقَرِيبُ (مُذَكَّرٌ)	
وَاحِدٌ	This	هَذَا
تَثْنِيَّةٌ	These two	هَذَانِ
تَثْنِيَّةٌ	These two	هَذَيْنِ
جَمْعٌ	These	هَؤُلَاءِ
	القَرِيبُ (مَوْثِقٌ).	
وَاحِدٌ	This	هَذِهِ
تَثْنِيَّةٌ	These two	هَاتَانِ
تَثْنِيَّةٌ	These two	هَاتَيْنِ
جَمْعٌ	Theses	هَؤُلَاءِ.

جامعہ فاطمیہ قادریہ جیلانیہ

	الْبَعِيدُ (مُذَكَّرٌ)	
وَاحِدٌ	That	ذَلِكَ
تثنیة	Those two	ذَانِكَ
تثنیة	Those two	ذَيْنِكَ
جمع	Those	أُولَئِكَ
	الْبَعِيدُ (مُؤَنَّثٌ)	
وَاحِدٌ	That	تِلْكَ
تثنیة	Those two	تَانِكَ
تثنیة	Those two	تَيْنِكَ
جمع	Those	أُولَئِكَ

التَّرْكِيبُ analysis

هَذَا الْقَلَمُ. نَفِيسٌ

اسم الاشارة. + مشاراً اليه

مبتداً + خبر = جملة اسمية خبرية

یہ قلم اچھی ہے۔ - This pen is precious.

الْأَسْمَاءُ الْمَوْصُولَةُ

اسم موصول وہ اسم ہے جو اس وقت تک جملے کی جز تام نہیں بنتا جب تک اس کے ساتھ ایک جملہ نہ

ملا یا جائے

وہ جملہ اس اسم کی ضمیر پر مشتمل ہوتا ہے اور صلہ کہلاتا ہے

A relative pronoun

(معرفة) A relative pronoun is a proper noun

Whose meaning/purpose is understood through the sentence (that which relates back to it (صلة) comes after it) called relative clause

جُمْلَةٌ Is generally a informative sentence صلة refers back to it)

) and must have a hidden pronoun or an apparent pronoun (خَبْرِيَّةٌ)

) referring to the relative pronoun (ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ او بَارِزٌ)

#ضمير عائدٌ is called

الْأَسْمَاءُ الْمَوْصُولَةُ لِلْمَذَكَّرِ

صيغة	اردو	English	
واحد	وہ جو وہ جس	Who, what, which	الَّذِي
مثنوية (رفع)	وہ جن کو یا جنہوں نے	Those two who, that, which.	الَّذَانِ
مثنوية (جر)	وہ جن کو یا جنہوں نے	Those two who, that, which	الَّذَيْنِ
جمع	وہ جن کو یا جنہوں نے	Those who, that, which	الَّذِينَ

الْأَسْمَاءُ الْمُصَوَّلَةُ لِلْمَوْثَاتِ

صيغة	اردو	English	
وَاحِدٌ	وہ جو وہ جسے	Who,that,which	الَّتِي
مثنوية (رفع)	وہ جن کو جنہوں نے	Those two,who that which	الَّتَانِ
مثنوية (جر)	وہ جن کو جنہوں نے	Those two,who that which	الَّتَيْنِ
مجمع	وہ جن کو جنہوں نے	Those ,who,that,which	الَّتِي
مجمع	وہ جن کو جنہوں نے	Those, who,that which	الَّتَوَاتِي
		Additional relative pronouns	
واحد مثنوية و جمع مذکر وموئث	وہ جو غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ	That,who (used for non intelligent beings)	مَا
واحد مثنوية و جمع مذکر وموئث	وہ جو جس نے ذَوِي الْعُقُولِ	That ,who (used for intelligence beings)	مَنْ
واحد مثنوية و جمع مذکر وموئث	وہ جو (معرب)	Which (الَّذِي) (meaning	الَّتِي
واحد موئث	وہ جو (معرب)	Which (الَّتِي) (meaning	آيَةٌ

اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ is also اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ According to the tribe of
اَسْمَاءُ الْاَفْعَالِ

1 وہ اسم جو فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہو

اسم فعل وہ ہے جو معنی اور استعمال میں فعل کے قائم مقام ہو

(استعمال سے مراد یہ ہے کہ عامل تو بنے لیکن معمول نہ بن سکے)

Verbal nouns

These are nouns that have the meaning of verbs but do not accept its signs .

رفع That which has the meaning of past tense gives the noun after it a
imperative command (اَمْرٌ حَاضِرٌ) The one which has the meaning of
نصب second person gives the noun after it a

جامعہ فاطمیہ قادریہ جیلانیہ

الْأَمْرُ الْحَاضِرُ

اردو	English	الْفِعْلُ	أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ
محلّت دے	Give respite	أَمِهْلُ	رُوَيْدًا
دے / جا	Leave / give up	دَعُ	بَلَّةً
آیا	Come	إِنْتِ	حَيْهَلًا - حَيًّا
آیا	Come	أَقْبِلُ	هَلْمًا
پکّر	Take	حُدُّ	دُونَكَ - هَا
پکّر لے	Hold on to it	إِلْزَمِ	عَلَيْكَ

الْفِعْلُ الْمَاضِي

اردو	English	الْفِعْلُ	أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ
وہ دور ہوا	He – it became far	بَعَدَ	هَيْهَاتَ
کیا فرق ہے	What a difference / parted away	إِفْتَرَقَ (بَعْدَ)	شَتَّانَ
جلدی کر	To hasten	سَرَعَ	سَرْعَانَ

مُرْتَجِلٌ

وہ ہے جو ابتدا ہی سے اسم فعل کے لیے وضع کیا گیا ہو

مَنْقُولٌ

ہو ہے کہ ابتدا میں اسم فعل نہ ہو بلکہ منقول کر کے اسم فعل بنایا گیا ہو

أَسْمَاءُ الظُّرُوفِ

وہ اسم ہے جو کسی زمانہ یا مکان پر دلالت کرے اس کی دو قسمیں ہیں

1 جو کسی خاص زمانے یا مکان پر دلالت کرے

جیسے مَمْضُوتٌ (مارنے کی جگہ یا وقت)

2 جو مطلق زمانہ یا مکان پر دلالت کرے (کسی فعل کی خصوصیت کا اعتبار نہ ہو) جیسے

إِذْ زَمَانَهُ مَاضِيٌّ پَر دِلَالَتِ كَرْتَا هَے

إِذْ زَمَانَهُ مُسْتَقْبَلٌ پَر دِلَالَتِ كَرْتَا هَے

اسم غیر متمکن صرف دوسری قسم ہے

Nouns of placement

Noun of placement is a noun which gives us an idea of the time and place when or where some work is done

Noun of placement is of two types

1 if it refers to a specific time or place

2 if it refers to a unspecified time or place

The second is the indeclinable noun

إِذْ It gives the meaning of past tense even when it appears before

Persian and future tense.

إِذَا It gives the meaning of present and future tense

Even if it appears before past tense.

ظُرُوفُ الزَّمَانِ Timeplacement

جس وقت	When	إِذْ
جب	When/ if	إِذَا
کب / جب	When	مَتَى
کیسا حال	How	كَيْفَ
کب	When	أَيَّانَ
گزشتہ کل	Yesterday	أَمْسٍ
جب سے / اس وقت سے	Since/ from	مُذَّ/مُنْذُ
ہر گز / کبھی بھی	Not / never	قَطُّ
ہر گز / کبھی بھی	Never	عَوْضُ
پہلے	Before	قَبْلُ
بعد	After	بَعْدُ
اب / ابھی	Now	الآنَ

جامعہ فاطمیہ قادریہ جیلانیہ

Nouns of placement/ location ظُرُوفُ الْمَكَانِ

جس جگہ	Where?	حَيْثُ
آگے	In front of	قُدَّامُ
نیچے	Under	تَحْتُ
کب	By, at, near, with	عِنْدَ
کہاں / جہاں	Where?	أَيْنَ
جہاں / کہاں سے	Where?	أُنَى
کب	At, by, near, with	لَدَى لَدُنْ
پچھلے	Behind	خَلْفُ
کم / سامنے / پچھلے		دُونِ

أَسْمَاءُ الْكِنَايَاتِ

اسم جو کسی معین شے پر صراحت کے بغیر دلالت کرے جیسے گم اور گد

لیکن اس کی دلالت صراحت نہ ہو

جامعہ فاطمیہ قادریہ جیلانیہ

Nouns of illusion

Those nouns which indicate an unspecified quantity.

کتنے	How many/ how much	كَمْ
اتنے	So many /so much	كَذَا
ایسے ایسے	So and so	كَيْتِ
ایسے ایسے	Such and such	ذَيْتِ

The signs of femininity عَلَامَاتُ التَّنْيِثِ

1 اِمْرَاةٌ

وہ تاء جس پر تلفظ کیا جائے اور الف کے وقت ہاء بن جائے

1 the spoken ta

طَلْحَةُ اس کو تاءِ مَلْفُوظَہ کہتے ہے

This ta is called تاءِ مَلْفُوظَہ

جامعہ فاطمیہ قادریہ جیلانیہ

